

Lesson # 11, 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A #	Juz # 1	سورة البقرة	Ayat 60-62	S #
	English meaning	Urdu meaning	Arabic words	
60	(he) sought water	پانی مانگا	اِسْتَسْقَى	1
	(you) strike / hit	مارو	اِضْرَبْ	2
	Your stick/ staff	عصا	عَصَا	3
	Gushed forth	پھوٹ پڑے	اِنْفَجَرَتْ	4
	ten+two=twelve	بارہ	اِثْنَا عَشْرَةَ	5
	Springs	چشمے	عَيْنًا	6
	In Fact (he) knew	جان لیا	قَدْ عَلِمَ	7
	Drinking place	گھاٹ	مَشْرَبَ	8
	(you all) drink!	تم پیو	اِشْرَبُوا	9
	(you all) commit!/evil	تم پھرو	تَعْتُوا	10
	Will never+we(will)have sabr/ patience	برگزم صبر نہ کریں گے	لَنْ نَّصْبِرَ	11
	Food	کھانا	طَعَامٍ	12
	(it) grow	اگائی ہے	تَنْبُتُ	13
	herbs	ترکاری	بَقْلِ	14

	cucumber(s)	ککڑی	قِئَاءَ	15
	garlic/ wheat	گندم	فَوْمَ	16
	lentil(s)	مسور	عَدَسٍ	17

	Onion (s)	پیاز	بِصَلٍ	18
	you(all) seek to change	تم بدلنا چاہتے ہو	تَسْتَبْدِلُونَ	19
	(is) lower/ inferior	ادنی ، معمولی	أَدْنَى	20
	A /any city	شہر	مِصْرًا	21
	you(all)asked/ demanded	تم نے مانگا	سَأَلْتُمْ	22
	The humiliation	ذلت	الذِّلَّةَ	23
	The dependence misery	محتاجی	الْمَسْكَنَةَ	24
	They returned	وہ لوٹے	بَاءُوا	25
	The prophets	نبی (جمع)، انبیاء	نَبِيِّنَ	26
	Without the haqq/right	ناحق	بِغَيْرِ الْحَقِّ	27
	They disobeyed	نافرمانی کی	عَصَوْا	28
	They transgress/ cross limit	حد سے بڑھتے	يَعْتَدُونَ	29
	They became jews	وہ یہودی ہوئے	هَادُوا	30
	The christians	نصرانی، عیسی	النَّصَارَى	31

		عليه السلام کومانے والے		
	The sabians	صابی لوگ، ایک قوم کانام	الصَّابِئِينَ	32
	Their reward	اجران کا	أَجْرُهُمْ	33

Qurannation.com